



ESSENTIAL NOTIFICATIONS FOR THE SHAREHOLDERS OF MCB BANK LIMITED

Dear Valued Shareholder,

Zakat Declaration (CZ-50):

Pursuant to the Zakat and Ushr Ordinance, 1980 read with the Zakat (Collection and Refund) Rules, 1981, MCB Bank Limited (the "Bank") is under a legal obligation to deduct zakat from payment of dividend(s) to shareholders and to deposit zakat amount with the relevant Authority. Zakat is applicable @2.5% of face value, i.e., PKR 10/- per share. Shareholders who intend to claim exemption from zakat deduction, if not provided earlier, are once again requested to submit the Zakat Declaration, i.e., 'Form CZ-50' to the Stock Brokers or the Central Depository Company of Pakistan Limited (in case the shares are held in book-entry form) or to the Bank's Share Registrar and Transfer Agent (in case the shares are held in Physical Form).

Mandatory Requirement of Valid CNIC and IBAN – Cash Dividends:

As per the regulatory requirements issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the payment of cash dividends shall only be made to those shareholders who have provided copies of their valid CNIC/ NICOP/ Passport (in the case of Individuals) and NTN certificate (in the case of corporate entities) as well as valid details of designated International Bank Account Number ("IBAN") (**requisite information**). In case of non-availability of the requisite information, the Bank will hold the payment of cash dividends. Therefore, shareholders who have not yet provided the requisite information, are requested to provide the same. In case of physical shares, the requisite information is required to be sent to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank at the below mentioned address. However, in case of shares are held in electronic form, the requisite information must be submitted directly to the Stock Brokers or the Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC"). In this regard, the Standard Request Form is available on the Bank's website.

Unclaimed Dividends and Share Certificates:

Shareholders, who have not yet claimed their cash dividend warrants, either kept with themselves or have been returned as undelivered to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank, are requested to make a claim for such unpaid/unclaimed dividends. They are also requested to claim any right/bonus share certificates that have either remained unclaimed or undelivered with the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank. In this regard, the Bank had already sent notices to the Shareholders at their registered addresses and also published notices in the newspapers having wide circulation requesting them to submit their claims. In the absence of such claims, the Bank will proceed to comply with regulatory requirements.

Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form:

SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640, dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere to the provisions of the Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") requiring all the existing companies to replace physical shares issued by them with shares in book-entry form in a manner as may be specified by the SECP. Therefore, shareholders still carrying physical shares are requested to convert it into book-entry form by opening an account with the CDC. Members are apprised of the various advantages associated with holding shares in book-entry form, including secure and convenient custody, easy tradability, elimination of risks like loss or theft, no stamp duty is required on issuance of duplicate share certificates and transfer of shares, and the smooth crediting of bonus or right shares. We strongly advise members, in their best interest, to promptly undertake the conversion of their physical shares into book-entry form.

E-mail Address and Mobile Number by Shareholders:

SECP vide its Notification No. S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 has allowed the listed companies to circulate the Annual Audited Financial Statements to its Shareholders through QR enabled code and weblink which is subject to the shareholders' approval. Additionally, Annual Audited Financial Statements shall also be circulated to the shareholders through their emails as maintained with the Bank. Similarly, the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 also requires that the Bank shall maintain the record of email address and mobile number of shareholders for casting vote, in a secured manner, through e-voting. In order to meet both regulatory requirements, the shareholders are requested, if not provided earlier, to submit their email addresses and mobile numbers to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank at the below mentioned address, in case of physical shares. However, in case of shares are held in electronic form, the said information must be provided directly to the Stock Brokers or the CDC.

M/s THK Associates (Pvt.) Limited

Share Registrar and Transfer Agent-MCB Bank Limited

Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2
D.H.A., Phase VII, Karachi-75500, Pakistan.
UAN: +92 (21) 111-000-322
Fax: +92 (21) 35310190

MUHAMMAD IMRAN

SVP/Department Head

Corporate Affairs Division-MCB Bank Limited

Lahore: March 06, 2024

ایم سی بی بینک لمیٹڈ کے حصص یافتگان کے لیے ضروری اطلاعات

معزز قابل قدر حصص یافتگان،

زکوٰۃ کا اقرارنامہ (CZ-50)

زکوٰۃ وعشر آرڈیننس 1980 کے مطابق، زکوٰۃ (کمیشن اینڈ ریفرنڈ) رولز، 1981 کے ساتھ پڑھتے ہوئے، ایم سی بی بینک لمیٹڈ (بینک) کی قانونی ذمہ داری ہے کہ حصص یافتگان کو منافع منقسمہ کی ادائیگی کرتے وقت زکوٰۃ کی کٹوتی کرے اور متعلقہ ادارے کے پاس زکوٰۃ جمع کروائے۔ 2.5 فیصد کی شرح سے حصص کی قیمت جو کہ 10 پاکستانی روپے فی شیئر ہے، پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ ایسے حصص یافتگان جو زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، اگر پہلے سے زکوٰۃ کا اقرارنامہ فراہم نہیں کیا تو ان سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ (حصص ہیک انٹری فارم میں ہونے کی صورت میں) زکوٰۃ کا اقرارنامہ یعنی فارم CZ-50 شاک بروکر یا سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان کو جمع کروائیں یا (حصص فیزیکل فارم میں ہونے کی صورت میں) بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو فارم CZ-50 جمع کروائیں۔

مؤثر قومی شناختی کارڈ اور IBAN کی لازمی مطلوبیت۔ نقد منافع منقسمہ

سیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ ریگولیٹری شرائط کے مطابق، نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف ان حصص یافتگان کو کی جائے گی جنہوں نے (افراد کی صورت میں) اپنے مؤثر قومی شناختی کارڈ / NICOP / پاسپورٹ کی نقول اور (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) این ٹی این سرٹیفکیٹ اور مؤثر نامزد انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ("IBAN") (مطلوبہ معلومات) کی تفصیلات فراہم کر دی ہوں۔ مطلوبہ معلومات کی عدم دستیابی کی صورت میں، بینک نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی روک لے گا۔ اس لیے ایسے حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کیں، ان سے مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کی التماس کی جاتی ہے۔ فیزیکل حصص کی صورت میں، مطلوبہ معلومات درج ذیل پتہ پر بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو بھیجنا مطلوب ہے۔ تاہم حصص الیکٹرانک فارم میں موجود ہونے کی صورت میں مطلوبہ معلومات شاک بروکر یا سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کو براہ راست جمع کروانی چاہیے۔ اس سلسلے میں معیاری درخواست فارم بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ اور حصص سرٹیفکیٹس

حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے نقد منافع منقسمہ وارنٹس کا دعویٰ نہیں کیا ہے، چاہے وہ ان کے پاس موجود ہوں یا بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے پاس بطور غیر موصول موجود ہوں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایسے تمام غیر ادا شدہ / غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ کے لیے دعویٰ کریں۔ ان حصص یافتگان سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی رائٹ / بونس شیئر سرٹیفکیٹ جو کہ ابھی تک غیر دعویٰ شدہ ہوں یا بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے پاس بطور غیر موصول موجود ہوں کا دعویٰ کریں۔ اس سلسلے میں بینک پہلے ہی حصص یافتگان کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر نوٹس بھیج چکا ہے اور وسیع اشاعت کے حامل اخبارات میں بھی نوٹس شائع کر چکا ہے، جن میں حصص یافتگان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس ضمن میں اپنے دعوے جمع کروائیں۔ ان دعووں کی عدم موجودگی میں بینک ریگولیٹری شرائط کے مطابق کارروائی کرے گا۔

فزیکل شیئرز کی ہیک انٹری فارم میں تبدیلی

SECP نے اپنے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے لکچمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 پر عمل کریں جس میں تمام موجودہ کمپنیز سے مطلوب کیا گیا ہے کہ ان کی طرف سے جاری کردہ فزیکل شیئرز کو ہیک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کے لیے اس طریقے کو استعمال کریں جیسا کہ SECP کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو۔ اس لیے ایسے حصص یافتگان جو ابھی تک فزیکل شیئرز رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ کسی ڈی سی کے ساتھ اکاؤنٹ کھول کر حصص کو ہیک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔ اراکین کو ہیک انٹری فارم میں حصص رکھنے سے مختلف فوائد سے آگاہ کیا جاتا ہے، جن میں محفوظ اور آسان تحویل، آسان ٹریڈنگ، کھوجانے یا چوری ہونے جیسے خطرات کا خاتمہ، ڈیجیٹل شیئرز سرٹیفکیٹ کے اجراء اور شیئرز کی منتقلی پر کوئی اسٹامپ ڈیوٹی کی ضرورت نہ ہونا اور بونس یا رائٹ شیئرز کی آسان کریڈٹنگ شامل ہیں۔ ہم اراکین کو پُر زور مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے بہترین مفاد میں اپنے فزیکل شیئرز کو ہیک انٹری فارم میں فوری طور پر تبدیل کریں۔

حصص یافتگان کی طرف سے ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر

SECP نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر S.R.O. 389(I)/2023 بتاریخ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے لکچمپنیز کو اجازت دی ہے کہ وہ بذریعہ فعال QR کوڈ اور ویب لنک سے اپنے حصص یافتگان کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بھیجیں، جو کہ حصص یافتگان کی منظوری سے مشروط ہے۔ مزید برآں حصص یافتگان کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بینک کو دیئے گئے ان کے ای میل ایڈریس پر بھی بھیجے جائیں گے۔ اسی طرح کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ای۔وونگ کے ذریعے محفوظ طریقے سے ووٹ ڈالنے کے لیے بینک حصص یافتگان کے ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر کارڈ پر قائم رکھے گا۔ دونوں ریگولیٹری شرائط کو پورا کرنے کے لیے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے، کہ اگر پہلے سے فراہم شدہ نہیں ہیں تو فزیکل شیئرز کی صورت میں درج ذیل پتہ پر بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو اپنے ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر جمع کروائیں۔ تاہم حصص کو الیکٹرانک فارم میں رکھنے کی صورت میں مذکورہ معلومات براہ راست شاک بروکر یا سی ڈی سی کومپیا کی جائیں۔

میسرز ڈی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

شیئر رجسٹرار اینڈ ٹرانسفر ایجنٹ۔ ایم سی بی بینک لمیٹڈ

پلاٹ نمبر C-32، جانی کمرشل سٹریٹ-2

ڈی۔ ایچ۔ اے۔ VII، کراچی۔ 75500، پاکستان

UAN: 322-111-000 (21) +92

فیکس: 35310190 (21) +92

محمد عمران

SVP/ڈیپارٹمنٹ ہیڈ

کارپوریٹ آفیسر ڈیویژن۔ ایم سی بی بینک لمیٹڈ

لاہور: 06 مارچ، 2024

یہ مراسلہ سٹم جزئیہ ہے اور اس میں دستخطوں کی ضرورت نہیں۔ براہ مہربانی اگر آپ پہلے سے ہی شرائط کی تعمیل کر چکے ہیں تو اس خط کو نظر انداز کر دیں۔